

JUZ XXVII

31. Ibrahim bertanye: Janokah urusan-ne hoi para utusan?
 قَالَ فَمَا حَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾
32. Si jemawab : Sebeneane keme nutus ngen kaum da menduso (kaum Luth).
 قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾
33. Buliak keme tenipo ngen si butau-butau kunei taneak da (telo),
 لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣٣﴾
34. Da tenando neak adep Tuhanne utuk (mbinaso) tun-tun da melapau batas.
 مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾
35. Lajau keme kemlua tun-tun da beimen da ade neak negrai kaum Luth-o.
 فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾
36. *Dan* Keme coa temau neak negrai-o, seluyen do umeak kunei tun-tun da besereak dirai.
 فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾
37. *Dan* keme teming(g)ea pado negrai-o suatu tando utuk tun-tun da saben ngen sikso da gis.
 وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَتَخَفُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾
38. *Dan* kulo ngen Musa (ade tando-tando kekuasaan Allah) idong keme mutus ngen fir'aun ngen mbin mu'jizat da nyato.
 وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾
39. Mako si (Fir'aun) coa dulai (kunei imen) berpok tentarane *dan* madeak : si-o bat un tukang sihir atau tun gilo.
 فَتَوَلَّىٰ بُرْكَانِهِ ۖ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾
40. Mako keme semikso si *dan* tentarane lajau Keme meluk si moi lem laut, idong si
 فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ

kemerjo kerjo da kidek.

﴿٤١﴾ مُلِيمٌ

41. *Dan* kulo pado (crito)'Ad idong Keme kemirim angin da mbinaso.

﴿٤١﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ

42. Angin-o coa ngunyau do pun keno kute, seluyen neane awei serbuk.

مَا تَذُرُّ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ

﴿٤٢﴾ كَالرَّمِيمِ

43. *Dan* pado (crito) kaum Tsamud idong madeak ngen si : besenang-senang ba udi sapei suatu waktu.

﴿٤٢﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ

44. Mako si belaku angkuh adep priteak Tuhan-ne lajau si senambar gutua idong si kemliakne.

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمْ

﴿٤٤﴾ يَنْظُرُونَ

45. Mako si coa gok debat dapet klongon dan coa kulo dapet petulung.

﴿٤٤﴾ فَمَا اسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ

﴿٤٥﴾

46. *Dan* (Keme mbinaso) kaum Nuh ayok-o . Sebeneane si-o ba kaum da fasik.

﴿٤٥﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ

﴿٤٦﴾

47. Dan lenget-o keme mbangun ngen kekuasaan (keme) dan sebeneane keme benea-benea melibeane.

﴿٤٦﴾ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

48. Dan bumei-o keme metang; mako sebaik-baik da metang (adeba keme).

﴿٤٨﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ

49. Dan kute sesuatu Keme semipto bebas-pasangan buliak udi nginget k e b e s a r a n A l l a h .

﴿٤٨﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ

﴿٤٩﴾ تَذَكَّرُونَ

50. Mako segeroba belek ngen (ta'at) Allah. Sebenerane uku su-ang melei pringatan da nyato kunei Allah Tuhan-nu.

فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ ^ط إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

51. dan jibeakba udi made tuhan da luyen neak saping Allah. Sebeneane uku su-ang melei pringatan da nyato kunei Allah
u t u k - n u .

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ
نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾

52. Awei-o ba coa do rasul pun da teko ngen tun-tun da ayoknu, suluyen si madeak: "si-o ba do tukang sihir atau tun gilo.

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ
إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿٥٢﴾

53. Janokah si saling bepesen tentang jano da nadeak-o. Sebeneane si ade ba kaum da melapau batas.

أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾

54. Mako coa dulai ba udi kunei si dan udi coa agok debat tercela.

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾

55. Dan tepba melei pringatan, kerno sebeneane pringatan-o benmamfaat utuk tun-tun da beimen.

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

56. Dan uku coa cemipto jin ngen manusio seluyen buliak si sembeak uku.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

57. Uku coa kemlok rezkai agok didik kuneine dan uku coa kemlok buliak si melei uku upan.

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
يُطْعَمُونَ ﴿٥٧﴾

58. Sebeneane Allah Si bad a Paling melei rezkai da ade kekuatan kembang kuwet.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

59. Mako sebeneane utuk tun-tun zalim ade pagiak (sikso) awei pagiak kuwat-kuwatne (ayokyo); mako jibeakba si minoi ngen uku gemacang-ne.

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ
فَلَا يَسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٩﴾

60. Mako celako ba utuk tun-tun da kapia فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي
pado bilai da nacang ngen si.

يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾